

فلوریڈا CELLA معلومات برائے والدین

CELLA کیا ہے؟

CELLA، انگریزی زبان سیکھنے کا جامع جائزہ، فلوریڈا کے انگریزی زبان سیکھنے والے طلباء کے لئے جنہیں متعلمین انگریزی زبان (ELLS) کہا جاتا ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ CELLA کے ذریعے انگریزی زبان سننے، بولنے، پڑھنے، اور لکھنے کی استعداد کو جانچا جاتا ہے۔

CELLA کے چار (4) درجات ہوتے ہیں

- درجہ A برائے گریڈز 2-K
- درجہ B برائے گریڈز 3-5
- درجہ C برائے گریڈز 6-8
- درجہ D برائے گریڈز 9-12

متعلمین انگریزی زبان CELLA ٹیسٹ کتنی مرتبہ دیتے ہیں؟
انگریزی زبان سیکھنے والے CELLA ٹیسٹ ہر سال دیتے ہیں تاوقتیکہ انہیں انگریزی میں مستعد قرار نہ دیا جائے۔

ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے؟

کنڈر گارٹن کے طلباء سے استاد ایک ایک کر کے چاروں طرح کے ٹیسٹ لیتا ہے۔ 1-12 کے طلباء سے ایک ایک کر کے استاد انگریزی پونے کا ٹیسٹ لیتا ہے؛ انگریزی سننے، پڑھنے اور لکھنے کے ٹیسٹ طلباء کے گروپوں کی صورت میں لئے جاتے ہیں۔

CELLA کے اسکور کیسے استعمال کئے جاتے ہیں؟

CELLA ٹیسٹ کے اسکور

- اساتذہ اور والدین کو طالب علم کی انگریزی زبان میں پیش رفت کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ استاد ان معلومات کو یہ فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے کہ طالب علم دوسری زبانوں کے بولنے والوں کے لئے انگریزی پروگرام (ESOL) سے کب خارج ہوگا۔
- معلومات مہیا کرتے ہیں کہ اسکول اور اسکول کے علاقے ELLS کی ضروریات کس حد تک پوری کر رہے ہیں۔
- تعلیمی اداروں اور لوگوں کو ELLS کی انگریزی کی استعداد اور ہر تعلیمی سال میں ان کی پیش رفت کے بارے میں معلومات مہیا کرتے ہیں۔

CELLA کی تیاری کے لئے آسان تراکیب

آپ کابچہ انگریزی زبان کی استعداد بڑھانے کی تعلیم روزانہ حاصل کرتا ہے۔ زیادہ تیزی سے سیکھنے میں آپ کے بچے کی مدد کرنے اور ٹیسٹ والے دن مدد کے لئے چند آسان تراکیب مندرجہ ذیل ہیں:

روزمرہ کی آسان تراکیب

1. اسکول میں اپنے بچے کی باقاعدہ حاضری یقینی بنائیں۔ اسکول میں آپ کے بچے / بچی کی زیادہ موجودگی سے ٹیسٹ میں اس کی بہتر کارکردگی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
2. انگریزی سیکھنے اور اسکول میں پڑھانے جانے والے ہر مضمون کی تعلیم کیلئے اپنے بچے / بچی کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ جو طالب علم صحت مند اور بہتر ہوگا وہ اچھی طرح سیکھے گا اور ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی دکھائے گا۔
3. صحت افزاء غذا ئیں کھانے میں اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ تندرست اور خوش مزاج بچہ اسکول میں محنت کرنے اور سیکھنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔
4. یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ ہر شب اپنا ہوم ورک مکمل کرے۔ ہوم ورک سے کمرہ جماعت کی تعلیم میں مدد ملتی ہے اور انگریزی استعمال کرنے کی فاضل مشق ہوتی ہے۔
5. اپنے بچے / بچی کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کی خاطر اس کے استاد سے اکثر ملاقات کیا کریں۔ بچے کی مدد کرنے کے لئے والدین اور استاد کو مل کر کام کرنا چاہئے۔
6. ہر روز اپنے بچے کے وافر آرام کو یقینی بنائیں۔ تھکے ہوئے بچوں کو اسکول میں توجہ دینے میں اور امتحان میں اچھی کارکردگی دکھانے میں پریشانی ہوتی ہے۔

CELLA ٹیسٹ کے روز کے لئے آسان تراکیب

1. یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے / بچی نے وافر آرام کیا ہو اور صحت بخش ناشتہ کیا ہو۔
2. یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے / بچی نے آرام دہ لباس پہنا ہو اور وہ اسکول میں ہر وقت پہنچے۔
3. اگر آپ کا بچہ / بچی چشمہ پہنتا ہے یا ایک آلہ سماعت لگاتا ہے، تو یہ بات یقینی بنائیں کہ انہیں استعمال کرنا اس کو یاد رہے۔
4. اگر آپ کے بچے کو ٹیسٹ دینے کے لئے کوئی سہولت درکار ہو (مثلاً ٹیسٹ کیلئے جلی حروف والا پرچہ)، تو یہ بات یقینی بنائیں کہ وہ ایسی سہولت حاصل کرے۔
5. آخر میں، اپنے بچے کو پر سکون رہنے کی ترغیب دیں۔ ٹیسٹ کے زیادہ سکور حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دینے سے بچہ / بچی گھبرا سکتا / سکتی ہے، جس کے باعث ان کے لئے ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی دکھانا مشکل ہو جاتا ہے۔

کے چبے نپا وت سوہ تال اوس ے رسود یی وک قل عتم ے س CELLA وک پآ رگا

سیرک مطبار ے س لوکسا



QAI07301